



نواحی علاقوں کے ضوابط

پارکس اور آبی گزرگاہوں، ساحل اور نواحی علاقوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے آپ کی رہنماء گائیڈ

مشمولات

[بر ایک کا احترام کریں](#) «

[ماحول کو بچائیں](#) «

[کھلی فضا سے لطف اندوز ہوں](#) «

[نواحی علاقوں کے سائنز اور علامات کو جانیں](#) «



ہر ایک کا احترام کریں

- نواحی علاقوں میں رہنے، کام کرنے اور لطف اندوز ہونے والوں کا خیال رکھیں
- دروازوں اور املاک کی اصلی حالت کا خیال رکھیں
- پارکنگ کے وقت گیٹ وے یا ڈرائیو وے تک رسائی مت روکیں
- اچھا سلوک رکھیں، سلام دعا کریں، جگہ شیئر کریں
- مقامی ساننرز پر عمل کریں اور جب تک وسیع تر رسائی دستیاب نہ ہو، نشان زد راستوں پر رہیں

اچھا سلوک رکھیں، سلام دعا کریں، جگہ شیئر کریں

جب آپ کھلی فضا میں وقت گزار رہے ہوں تو آپ کا سامنا دوسرے لوگوں اور جانوروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ گاڑی یا سائیکل چلاتے وقت گھوڑوں، پیدل چلنے والوں اور مویشیوں کے لیے رفتار کم کر لیں یا رک جائیں۔ ہمیشہ انہیں کافی جگہ دیں۔

سائیکل سواروں کو چاہیے کہ وہ گھوڑوں کے چلنے کے راستوں میں پیدل چلنے والوں اور گھڑ سواروں کو لازمی راستہ دیں۔

سائیکل سواروں اور گھڑ سواروں کو پیدل چلنے والوں کی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے مگر پیدل چلنے والوں کو بھی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ ان کے راستے میں رکاوٹ یا خطرہ نہ ڈالیں۔

کھیتی باڑی، مویشی اور جنگلی جانور

آپ کے اقدامات دوسرے لوگوں کی زندگیوں اور ذریعہ معاش کو متاثر کر سکتے ہیں۔

نواحی علاقوں میں کام کرنے والے افراد کے ساتھ تعاون کریں۔ مثال کے طور پر، جب جانوروں کو منتقل یا جمع کیا جا رہا ہو تو چرواہے کی ہدایات پر عمل کریں۔ یہ سب کو محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔

دروازوں اور املاک کی اصل حالت کا خیال رکھیں یا ساننرز پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔ جب کسی گروپ میں ہوں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آخری شخص دروازے سے نکلنے کا طریقہ جانتا ہو۔

چرواہے جانوروں کو اندر رکھنے کے لیے دروازے بند کرتے ہیں یا خوراک اور پانی تک رسائی کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ فارم کی مشینری، گھوڑوں یا مویشیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ اگر آپ محسوس کریں کہ فارم کا جانور تکلیف میں ہے، تو کسان کو اطلاع دینے کی کوشش کریں۔

مقامی ساننرز کی پیروی کریں اور نشان زد راستوں پر رہیں

اپنا راستہ ڈھونڈنے کے لیے نقشے اور مقامی ساننرز استعمال کریں۔ نشان زد راستوں پر رہیں چاہے ان پر کیچڑ ہی کیوں نہ ہو، ماسوائے کہ وسیع تر رسائی مثلاً عام رسائی کا حامل راستہ دستیاب ہو۔ اس سے فصلوں اور جنگلی حیات کی حفاظت میں مدد ملتی ہے۔

نواحی علاقوں میں استعمال ہونے والے [ساننرز اور علامات](#) کو جانیں۔ یہ نواحی علاقوں میں مختلف لوگوں کے لیے راستوں کی شناخت کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

جنگلی جانوروں، مویشیوں اور گھوڑوں کو کافی جگہ دیں۔ ان کا رویہ غیر متوقع ہو سکتا ہے، خصوصاً جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہوں اور آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔

مویشیوں، گھوڑوں یا جنگلی جانوروں کو کچھ نہ کھلائیں کیونکہ اس سے انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔

نواحی علاقوں میں سفر اور پارکنگ

نواحی علاقوں کی سڑکوں پر ٹریفک لوگوں اور جنگلی حیات کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔

نواحی سڑکوں پر گاڑی چلاتے ہوئے رفتار کم کر لیں اور احتیاط سے گاڑی چلائیں۔ یقینی بنائیں کہ پارکنگ کے وقت آپ گیٹ وے یا ڈرائیو وے تک رسائی نہ روکیں۔ ایمرجنسی کی گاڑیوں کے لیے ہمیشہ رسائی چھوڑیں۔

کھلی فضا میں جاتے وقت اپنی گاڑی گھر چھوڑنے پر غور کریں۔ اس کی بجائے آپ عوامی ذرائع نقل و حمل استعمال کر سکتے ہیں۔ عوامی ذرائع نقل و حمل کے بارے میں معلومات کے لیے [ٹریولائن کی ویب سائٹ](#) ملاحظہ کریں۔

جہاں راستہ ریلوے لائن کو عبور کرے، وہاں اضافی احتیاط برتیں اور چوکس رہیں۔ آپ لیول کراسنگ کے محفوظ استعمال کے بارے میں رہنما ہدایات [نیٹ ورک ریل](#) کی ویب سائٹ پر حاصل کر سکتے ہیں۔

بغیر فٹ پاتھ کی سڑک پر چلتے ہوئے آنے والی ٹریفک کا خصوصی دھیان رکھیں اور [پانی وے کوڈ](#) کی پیروی کریں۔



ماحول کو بچائیں

- اپنا کوڑا واپس لے کر جائیں - اپنی موجودگی کا کوئی سراغ نہ چھوڑیں
- آگ نہ لگائیں اور صرف وہاں بار ہی کیوں کریں جہاں سائن کے ذریعے اس کی اجازت دی جائے
- اپنے کتوں کو ہمیشہ قابو اور نظر میں رکھیں
- کتے کا پاخانہ - اسے شاپر میں ڈالیں اور کسی بھی عوامی کوڑے دان میں ڈال دیں
- قدرت کی حفاظت - نقصان اور خلل پیدا نہ کریں

- اپنے کتے کو ہمیشہ پٹا باندھ کر یا نظر میں رکھنا چاہیے
- یقین ہو کہ آپ کا کتا آپ کے بلانے پر واپس آجائے گا
- اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جس راستے یا علاقے جس تک آپ کو رسائی ہے، آپ کا کتا سے بھٹک نہ جائے
- ہمیشہ مقامی سائنز کو دیکھیں کیونکہ ایسے حالات ہوتے ہیں جب آپ کو لازمی طور پر اپنے کتے کو پورا سال یا سال کے کچھ حصے میں پٹے میں رکھنا ہوتا ہے۔ مقامی علاقے معاون کتوں کے علاوہ، کتوں پر مکمل پابندی بھی لگا سکتے ہیں۔ ایسی مقامی پابندیوں کے بارے میں آپ کو سائنز کے ذریعے معلومات ملیں گی۔

آپ جہاں بھی جائیں، بہتر یہ ہے کہ آپ موبیشیوں کے اردگرد اپنے کتے کو پٹے میں رکھیں۔

عام رسائی کی جگہ اور ساحل پر، اپنے کتے کو موبیشیوں کے ارد گرد لازمی طور پر پٹے میں رکھیں۔ 1 مارچ اور 31 جولائی کے درمیان، عام رسائی کی جگہ پر اپنے کتے کو لازمی طور پر پٹے میں رکھیں، چاہے اس جگہ کوئی موبیشی نہ ہو۔ یہ قانونی تقاضے ہیں۔

اگر کوئی کتا موبیشیوں کا پیچھا یا حملہ کر رہا ہو تو کسان اس کو گولی مار سکتا ہے - ممکن ہے کہ وہ کتے کے مالک کا ازالہ کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں۔

اگر آپ کو موبیشیوں یا گھوڑوں سے خطرہ محسوس ہو، تو اپنے کتے کا پٹہ کھول دیں۔ اپنے کتے کی حفاظت کرتے ہوئے، خود زخمی ہونے کا خطرہ مت اٹھائیں۔ اپنے کتے کو چھوڑنے سے آپ دونوں کے لیے محفوظ رہنے میں آسانی ہو گی۔

[کتے کو سیر کروانے کے ضوابط](#) سے آپ کو مزید معلومات مل سکتی ہیں۔

کتے کا پاخانہ - اسے شاپر میں ڈالیں اور پھر - کسی بھی عوامی کوڑے دان میں ڈال دیں

ہمیشہ اپنے کتے کے پاخانے کو صاف کریں کیونکہ یہ لوگوں، موبیشیوں اور جنگلی حیات کو بیمار کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔

کتے کے پاخانے کا تھیلا کہیں اور نہ چھوڑیں، چاہے آپ اسے بعد میں اٹھانے کا ارادہ ہی کیوں نہ رکھتے ہوں۔ بدبو ختم کرنے والے تھیلے اور کنٹینرز کتے کے پاخانے کے تھیلے کو لے جانا آسان بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو عوامی کوڑے دان نہیں مل رہا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے گھر لے جائیں اور اپنے کوڑے دان میں ڈال دیں۔

ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے اپنے نواحی علاقوں اور کھلی جگہوں کی حفاظت کریں۔

قدرت کی حفاظت - نقصان اور خلل پیدا نہ کریں۔ چٹانوں، پتھروں، پودوں اور درختوں کو اسی حالت میں چھوڑیں جس میں وہ آپ کو ملے تھے اور خیال رکھیں کہ آپ زمین پر گھونسلے بنانے والے پرندوں سمیت دیگر جنگلی حیات کو پریشان نہ کریں۔

کھنڈرات یا تاریخی مقامات کو میں خلل نہ ڈالیں - قدرتی اور اصلی تعمیر شدہ حالت میں موجود ہمارا ورثہ ہمارے لیے اہم ہے۔

اپنا کوڑا گھر واپس لے جائیں - اپنی موجودگی کا کوئی سراغ نہ چھوڑیں

اپنے ساتھ ایک بیگ لانا اور اپنا کوڑا کرکٹ اور کھانے کا کچرا گھر لے جانا، عوامی کوڑے دان کا استعمال یا اگر ممکن ہو تو ری سائیکل کرنا یاد رکھیں۔ کوڑہ کرکٹ نواحی علاقوں کی خوبصورتی کو خراب کر دیتا ہے اور جنگلی حیات اور موبیشیوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ کوڑا کرکٹ گرانا اور کچرے کو ادھر ادھر پھینکنا جرائم ہیں۔

آگ نہ لگائیں اور صرف وہاں بار ہی کیوں کریں جہاں سائن کے ذریعے اس کی اجازت دی جائے

کھلے شعلوں اور سگریٹ کے ساتھ احتیاط برتیں۔ صرف وہاں بار ہی کیوں استعمال کریں جہاں سائن بتائیں کہ اجازت ہے۔ ہمیشہ اپنے بار ہی کیوں کو باہر رکھیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ راکھ ٹھنڈی ہو اور اسے ذمہ داری سے ٹھکانے لگائیں۔ جنگلی حیات اور ان کے رہنے کی جگہوں کے لیے بھی آگ اتنی ہی تباہ کن ہوتی ہے جتنی کہ وہ لوگوں اور ان کی املاک کے لیے ہو سکتی ہے۔

سبزے کے بندوبست کے لیے کچھ زمینوں کے منیجر کنٹرول شدہ آگ استعمال کرتے ہیں، خصوصاً بیٹھز اور مورز پر 1 اکتوبر اور 15 اپریل کے درمیان۔ اگر آپ کو کوئی آگ نظر آئے جسے دیکھنے والا فرد موجود نہ ہو تو، 999 پر کال کریں۔

کتوں کو ہمیشہ قابو اور نظر میں رکھیں

نواحی علاقے، پارکس اور ساحل آپ کے کتے کی ورزش کے لیے بہترین مقامات ہوتے ہیں لیکن آپ کو دوسرے لوگوں اور جنگلی حیات کی ضرورت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔

اپنے کتے کو مؤثر کنٹرول میں رکھیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ جنگلی حیات، موبیشی، گھوڑوں اور دیگر لوگوں سے دور رہے، جب تک کہ بلا یا نہ جائے۔ آپ کو:



کھلی فضا سے لطف اندوز ہوں

- اپنا راستہ اور مقامی حالات چیک کریں
- اپنی مہم جوئی کی تیاری کریں - جانیں کہ کیا توقع کرنی چاہیے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے
- اپنے وزٹ سے لطف اندوز ہوں، تفریح کریں، یادیں بنائیں

اپنی مہم جوئی کی تیاری کریں - جانیں کہ کیا توقع کرنی چاہیے اور آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں

کسی اور کو بتائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کی واپسی کب متوقع ہے۔ ممکن ہے کہ نواحی علاقوں میں آپ کو گھنٹوں تک کوئی نہ نظر آئے اور فون سگنل بھی بہت سی جگہوں پر ناقابل بھروسہ ہوں۔

آپ اپنی اور اپنی نگہداشت میں موجود دوسرے افراد کی حفاظت کے ذمہ دار خود ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس اپنی سرگرمی کے لیے درکار تمام مہارتیں اور علم موجود ہو۔

محفوظ رہنے کے لیے قدرتی خطرات بشمول موسمی تبدیلی کے لیے تیار رہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنی منصوبہ بند سرگرمیوں کے لیے صحیح لباس اور سامان رکھ رہے ہیں۔

اگر مقامات مصروف ہوں، تو ضرورت پڑنے پر اپنے منصوبوں کو تبدیل کرنے کے حوالے سے لچک کا مظاہرہ کریں۔

حقوق اور اجازتیں

یہ ضابطہ مختلف صارفین کے حقوق کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ کچھ سرگرمیوں کے لیے آپ کو زمین کے مالک سے اجازت لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ان میں شامل ہیں:

- کیپ لگانا
 - تازہ پانی میں تیرنا
 - تازہ پانی میں مچھلی پکڑنا
- اپنے وزٹ سے لطف اندوز ہوں، تفریح کریں، یادیں بنائیں۔

کھلی فضا آپ کی تندرستی کے لیے اہم ہوتی ہیں۔ یہ آرام دہ، پرسکون ماحول اور مفید سرگرمیوں کی جگہ ہے۔ کھلی فضا میں آپ جو بھی کرنا چاہتے ہوں، اگر آپ پیشگی تیاری کریں گے تو اس سے زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔

اپنا راستہ اور مقامی حالات چیک کریں

یقینی بنائیں کہ آپ کو راستہ معلوم ہو اور آپ کی ضرورت کے نقشے آپ کے پاس ہوں۔ روانہ ہونے سے پہلے تازہ ترین نقشے، رہنما ہدایات یا ویب سائٹس ملاحظہ کریں۔

آپ کھلی فضا کے تفریحی گروپس سے خاص سرگرمیوں کے بارے میں مشورہ حاصل کر سکتے ہیں۔ [گیٹ آؤٹ سائیڈ](#) یا [وزٹ برٹین](#) جیسی ویب سائٹس ان گروپوں کی فہرست فراہم کر سکتی ہیں۔ معلوماتی مراکز بھی آپ کو مقامی آئیڈیاز اور مشورے دے سکتے ہیں۔

موسم، لہروں اور پانی کی صورتحال پر نظر رکھیں

روانہ ہونے سے پہلے موسم کی پیشگوئیوں کا خیال رکھیں۔ پہاڑوں اور ساحل پر موجود حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ رستے میں ہوں تو تب بھی حالات تبدیل ہونے پر پروگرام منسوخ کرنے سے گریز نہ کریں۔


بڑھتی ہوئی پانی کی لہروں کی وجہ سے پھنس جانے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے [ٹائڈ ٹائمز](#) دیکھیں۔ صرف سمندر ہی نہیں، کچھ دریا بھی لہروں میں تبدیلی سے متاثر ہوتے ہیں۔ پھسلنے والی چٹانوں اور سمندری کائی پر زیادہ احتیاط برتیں۔

اگر آپ نے کشتی رانی کرنی ہے، تیرنا ہے یا پانی سے لطف اندوز ہونا ہے، تو پانی کے معیار اور حالات جاننے کے لیے [انوائرنمنٹ ایجنسی کی ویب سائٹ](#) چیک کریں۔



نواحی علاقوں کے سائز اور علامات کو جانیں

نواحی علاقوں میں استعمال ہونے والی علامات میں شامل ہیں:




بلوط کے پہل کا نشان

نیشنل ٹریل، چلنے کے لیے بنائے گئے، جن میں سے کچھ میں گھڑ سواری اور سائیکل چلانا ممکن ہے۔ محدود نقل و حرکت والے صارفین ٹریل کی مناسبت جانچنے کے لیے [نیشنل ٹریل](#) کی ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس ویب سائٹ میں نقشے، سفر کی منصوبہ بندی کے ٹولز اور ٹریل کے موڑوں کے بارے میں معلومات بھی شامل ہیں۔ یہ نشان انگلینڈ اور ویلز میں انگلینڈ کوسٹ پاتھ سمیت طویل فاصلے کے 16 راستوں کی نشان دہی کرتا ہے۔



پیلا تیر



بھورے رنگ کا گول نشان جس میں ایک شخص پہاڑوں پر چل رہا ہوتا ہے




عام رسائی کا سائن، آپ راستوں سے دور بھی گھوم سکتے ہیں۔ اس میں بہت سے علاقے شامل ہیں

- پہاڑ
- موور لینڈ
- بیتھ
- ڈاؤن
- ساحلی پٹی
- رجسٹرڈ مشترکہ زمین


نقشوں، معلومات اور رسائی کی پابندیوں کے بارے میں جاننے کے لیے [عام رسائی کی ویب سائٹ](#) چیک کریں۔




نیلا تیر



جامنی تیر



سرخ تیر - ہر طرح کی ٹریفک (BOAT)



کسی پوسٹ یا گیٹ پر مقامی نشان

اجازت یافتہ راستے، مقامی سائز پر موجود ہدایات پر عمل کریں کیونکہ زمین مالکان رضاکارانہ طور پر ان راستوں تک رسائی فراہم کرتے ہیں اور انتخاب کرتے ہیں کہ کون انہیں استعمال کر سکتا ہے۔ کچھ عام رسائی کے علاقے بھی اسی طرح دستیاب کیے جاتے ہیں۔